



ٹریفک شعور
بیداری مہم

برائے طلباء و طالبات

LOOK

listen

Think!



TRAFFICE POLICE
CHAKWAL




TRAFFIC SIGNALS




TRAFFIC SIGNALS




RED TO STOP




YELLOW READY TO STOP /
GO



GREEN TO GO



رُکنے کا اشارہ



رکنے کا اشارہ

چلنے کو تیار

چلنے اور مڑنے
کا اشارہ



ٹریفک اشارے نہ ہونے کی صورت میں ٹریفک پولیس کی ہدایات پر عمل کریں۔

پیغام

کیپٹن (ر) واحد محمود
ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر جکوال



عزیز طلباء و طالبات

ٹریفک قواعد و ضوابط پر مبنی یہ چھوٹا سا خوبصورت کتابچہ خصوصاً آپ کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ اس میں پیدل چلنے اور موٹر سائیکل چلانے سے متعلق ٹریفک قوانین کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ جب آپ گھر سے سکول جاتے ہیں تو سڑک استعمال کرتے ہیں اور سڑک استعمال کرنے کے لیے اس سے متعلقہ قواعد و ضوابط بارے جانکاری حاصل کرنا انتہائی ضروری ہے۔ ٹریفک قوانین پر عمل پیرا ہو کر نہ صرف اپنی اور دوسروں کی جان کی حفاظت کرتے ہیں بلکہ آپ ایک اچھا شہری بن کر ملک و ملت کی ترقی میں اہم کردار ادا کرسکتے ہیں۔

سڑک پر پیدل چلنا

جب آپ کسی بھی سڑک پر پیدل چل رہے ہوں تو ان باتوں کا خیال رکھیں۔

- ♦ جہاں سڑک کے کنارے فٹ پاتھ ہے اس کو استعمال کریں، سڑک پر چلنا خطرے سے خالی نہیں ہے۔
- ♦ جہاں فٹ پاتھ نہ ہو وہاں سڑک کے انتہائی دائیں طرف چلیں۔
- ♦ چونکہ تمام ٹریفک سڑک کے بائیں طرف چلتی ہے اس لیے پیدل چلنے کے لیے سڑک کے دائیں طرف چلیں تاکہ آپ سامنے سے آنے والی گاڑیوں پر نظر رکھ سکیں۔
- ♦ سڑک کے بائیں جانب چلنا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے کیونکہ گاڑیاں بھی اسی جانب سے آ رہی ہیں اور آپ پیچھے کی جانب نہیں دیکھ سکتے اس لیے کوئی بھی گاڑی آپ کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔



سڑک پار کرتے وقت ان باتوں کا خیال رکھیں۔

- ♦ سڑک ہمیشہ زبیرا کراسنگ (پیدل چلنے کا راستہ) نشان زدہ جگہ سے پار کریں۔
- ♦ جہاں زبیرا کراسنگ نہ ہو وہاں سڑک ایسی جگہ سے پار کریں جہاں سڑک کی چوڑائی کم سے کم ہو اور اگر درمیان میں کوئی سنٹرمیڈین یا ٹھہرنے کی جگہ ہے تو زیادہ بہتر ہے۔


- ♦ سڑک پار کرنے سے پہلے سڑک کے کنارے ٹھہریے پہلے دونوں اطراف کی ٹریفک دیکھنے کے بعد اطمینان کریں کہ اب سڑک پار کرنے میں کوئی خطرہ نہیں ہے سڑک کو سیدھا پار کریں۔
- ♦ ترچھے انداز میں سڑک پار کرنا خطرناک ہے۔



سڑک کراس کرنا



ٹریفک سگنلز کی تعمیل کریں۔ سڑک اسی حالت میں عبور کریں جبکہ سگنل اجازت دے۔
سڑک پر کھڑے نہ ہوں اور نہ ہی بلاوجہ سڑک پر گھومیں خاص طور پر ایسی جگہوں پر جہاں سے
گاڑی کے ڈرائیور آپ کو نہ دیکھ سکیں۔ ایسا کرنا خطرناک ہو سکتا ہے۔
سڑک پر آنے سے پہلے اچھی طرح اطمینان کر لیں کہ کوئی خطرہ تو نہیں ہے۔
سڑک کبھی بھاگ کر مت عبور کریں اس میں بھی خطرہ ہے۔
سڑک پر کھڑی گاڑیوں کے آگے پیچھے سے سڑک عبور کرنے سے گریز کریں۔
یاد رکھیے سڑک عبور کرنے کے لیے زیبرا کراسنگ محفوظ جگہ ہے خواہ کچھ فاصلہ مزید پیدل طے کرنا
پڑ جائے۔



سڑک کے کنارے ایسے کھیل مت کھیلیں جن
میں آپ کو بھاگ کر سڑک پر آنا پڑے (مثلاً
کرکٹ سکیٹنگ وغیرہ) گیند پکڑنے کے لیے
آپ سڑک پر بھاگتے ہوئے یکدم آئیں کوئی
گاڑی آجائے اور خدا نخواستہ حادثہ ہو جائے۔

سڑک پر کھیل نہ خطرناک ہے



سڑک ٹریفک کے لئے ہے، کرکٹ کھیلنے کے لئے نہیں۔


سائیکل یا موٹر سائیکل پر کرتب دکھانا خطرناک ہے



سائیکل کا راستہ

سائیکل یا موٹر سائیکل پر کرتب دکھانا، آپ اور دوسروں کے لئے خطرے کا باعث ہوتا ہے


تیز رفتاری خطرناک ہے



تیزی سب کو بھاتی ہے پر جان اسی میں جاتی ہے

حد رفتار 50 کلومیٹر

اپنی مقررہ لین میں رہیں



اپنی لین میں رہیں گاڑیاں اپنی مقررہ لین میں چلائیں


ٹریفک کے نشانات

ٹریفک نشانات کے بارے میں معلومات بے حد ضروری ہے کیونکہ ان نشانات کے ذریعے آپ کو فوری طور پر پتہ چلتا ہے کہ سڑک پر آگے کیا ہے۔ مثال کے طور پر یہ نشان اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ سڑک جائے۔



اس طرح ٹریفک کے کل 138 اہم نشانات ہیں ان میں سے بعض نشانات ایسے ہیں جن کے بارے میں علم ہونا بے حد ضروری ہے اور اہم ہے اس کتابچے میں ہم نے 60 اہم نشانات بنائے ہیں ان پر غور کریں اور ان کو ذہن نشین کریں اور ان پر عمل کریں۔

ان نشانات کا مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کو ایک نظر میں آنے والے راستے اور خطرات کا علم ہو جائے اور آپ الرٹ ہو جائیں کیونکہ طویل عبارت پڑھنے کے لئے وقت درکار ہوتا ہے اور یہ نشانات ان پڑھ افراد کو بھی ڈرائیونگ میں مدد دیتے ہیں۔ اشاروں کی زبان بین الاقوامی کہلائی جاتی ہے۔



یاد رکھیے:

تمام ٹریفک قواعد و ضوابط آپ کی جان کی سلامتی کے ضامن ہیں، ان کو یاد رکھیے اور ان پر عمل کیجئے۔





احتیاطی اشارے

نگون کے اندر بنائے گئے احتیاطی اشارے کھلاتے ہیں۔ یہ سڑک پر آگے آنے والی متوقع صورتحال نشاندہی کرتے ہیں تاکہ ڈرائیور محتاط ہو جائے۔

دوہرا موڑ دائیں طرف	دوہرا موڑ بائیں طرف	دایاں موڑ	بایاں موڑ
بچوں کے سڑک پار کرنے کی جگہ	ٹرینک کا پتھر	آگے سڑک جگ ہے	خطرناک چڑھائی
واپس مڑ سکتے ہیں	ریلوے چھاگ	رولڈ کم کرنے کا کام	سڑک کی مرمت کا کام جاری ہے
ناہوار سڑک	موتی یا دوسرے جانوروں کے سڑک پار کرنے کی جگہ	سائیکل سوار کا راستہ	بچوں کی سڑک پار کرنے کی جگہ
دو طرفہ ٹریفک	آگے چھوٹی سڑک کراس کرتی ہے	ہوائی اڈہ	تین دالے اشارے



لازمی اشارے

یہ گول دائرے کے اندر بنائے جاتے ہیں یہ ٹریفک کی درپیش صورتحال کے پیش نظر کوئی نہ کوئی حکم دیتے ہیں ان کی خلاف ورزی جرم اور قابل گرفت ہے۔







 بارن بھانج ہے	 گڈی کڑی کرنا منع ہے	 دائیں طرف منع ہے	 آہستہ اپنی رفتار کم کرچے
 پیدل چلنے والوں کا دائرہ منع ہے	 مال بردار گاڑیوں کا دائرہ منع ہے	 موٹر سائیکلوں کا دائرہ منع ہے	 سائیکلوں کا دائرہ منع ہے
 ساڑھے سولہ فٹ سے زیادہ اونچی گاڑیوں کا دائرہ منع ہے	 ساڑھے آٹھ فٹ سے زیادہ چوڑی گاڑیوں کا دائرہ منع ہے	 ظہرے کا اشارہ	 موٹر گاڑی کا دائرہ منع ہے
 واپس مڑنا منع ہے	 دائیں طرف مڑنا منع ہے	 آگے لگانا منع ہے	 پولیس کی چوکی سے سڑک کے غیر کمرے منع ہے
 صرف سامنے جاسکتے ہیں	 ٹریفک کا پکر	 سڑک بند ہے	 چاتوگاڑیوں کا دائرہ منع ہے

معلوماتی اشارے



ٹریفک کے اشاروں میں نیلے سبز یا سیاہ رنگ میں جتنے بھی اشارے ہیں معلوماتی اشارے کہلاتے ہیں۔ یہ مختلف قسم کی معلومات فراہم کرتے ہیں۔



 ہسپتال	 ہاؤس رست کرنے کی جگہ	 پٹرول پمپ	 ہاؤس کوری کرنے کی جگہ اس طرف ہے
 زیر آگ سگ پیڈل چلنے والوں کو پہلے راستوں	 جگہ کی سمت	 بس ٹاپ	 یک طرفہ سڑک
 ٹریفک لین سسٹم		 آگاہ سڑکوں	 درمیانی لائن پر اوور ٹیک کرنا منع ہے
 بہر روشنی کے آگاہ اشارے کیجئے	 رک جاہے	 صرف دائیں طرف ہڑیے	 رکے کے لیے آہستہ ہو جاہے
 کنارے کے لائن	 بچوں کے سڑک پار کرنے کی جگہ	 مقامات کے متعلق اشارے	 چلیے

ہارن کا استعمال کم سے کم کریں



ہارن بجانا منع ہے

ہارن کم سے کم استعمال کریں

رات کے وقت اپنی ہیڈ لائٹ مدہم رکھیں



شہر میں رات کے وقت گاڑیوں کی روشنی مدہم رکھیں


اور لوڈنگ خطرناک ہیں اس سے پرہیز کریں



دیگر خطرات


بس سے لٹک کر یا چھت پر سفر کرنا انتہائی خطرناک ہے

بس رکنے پر بس میں سوار مسافروں کو پہلے
اترنے دے، پھر لائن میں بس پر سوار ہوں



بس سٹینڈ بس رکنے پر، بس میں سوار مسافروں کو پہلے اترنے دیں۔ پھر لائن میں بس پر سوار ہوں

بڑی گاڑیاں سڑک کے بائیں طرف چلیں



مسافر یا سامان لے جانے والی سست رفتار گاڑیاں سڑک کے بائیں جانب چلیں بائیں طرف رہے

گاڑیوں سے نکلنے والا دھون سب کی صحت کے لیے نقصان دہ ہے



گاڑیوں سے نکلنے والا دھواں سب کی صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔

زیرا کراسنگ استعمال کرے



زیرا کراسنگ استعمال کیجئے

سڑک پار کرنے کے لئے زیرا کراسنگ استعمال کیجئے

اگر سڑک پر زبیرا کر اسنگ نہ ہو تو سڑک انتہائی احتیاط سے پار کرنی چاہیے



اگر سڑک پر زبیرا کر اسنگ نہ ہو تو سڑک انتہائی احتیاط سے پار کرنی چاہیے بچوں کے سڑک پار کرنے کا راستہ

سڑک پار کرنے کے لیے ہمیشہ صحیح راستہ استعمال کریں



پیدل اشخاص کا داخلہ منع ہے سڑک پار کرنے کے لئے ہمیشہ صحیح راستہ استعمال کریں

سائیکل سواروں کے لیے اختیاطی تدابیر

Cyclists



Cyclists must ensure:

- Use of Soft Shoulders of the Road.
- Use of Reflectors.
- That The Cycle is Mechanically Fit. (Brakes, Tyres)
- Observing All Traffic Signs, Signals & rules.
- Getting Down From Cycles at Major Intersections.
- Use of Crash Helmets.